

مکتبہ نام مسولین و فاق بابت امتحانی قواعد و ضوابط و فاق المدارس

مرتب: مولانا عبدالجید
نااظم مرکزی و فتو و فاق

و فاق المدارس کے امتحانات سے متعلق قواعد و ضوابط پر مشتمل ایک مکتبہ حضرت مولانا محمد حنفی جالندھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم اعلیٰ و فاق المدارس العربیہ پاکستان کی جانب سے تمام مسولین و فاق کو امتحانات سے قبل بھجوایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں امتحانی نظم سے متعلق قواعد و ضوابط اور ہدایات کو لکھا کیا گیا ہے، نیز مجلس عاملہ و امتحانی کمیٹی کے حالیہ فیصلوں کی روشنی میں اسے دوبارہ مرتب کیا گیا ہے، اس لئے مدارس اور وفاق کے امتحانات سے وابستہ حضرات کی راجہنمای و استفادہ کے لئے ماہنامہ و فاق میں شائع کیا جا رہا ہے۔

عنوان: قواعد و ضوابط و ہدایات امتحان برائے مسول

”وفاق المدارس“ کے درجہ کتب کے سالانہ امتحانات 27 ربیعہ الثانی 1439ھ شعبان المظہم مطابق 14 تا 19 اپریل 2018ء بروز ہفتہ تا جمعرات ہوں گے۔ جبکہ درجہ حفظ کے امتحانات 15 تا 24 ربیعہ الثانی 1439ھ مطابق 2 تا 11 اپریل 2018ء ہوں گے۔ ان شاء اللہ۔

مسولین اپنے متعلقہ ناظمین کی مشاورت اور رہنمائی میں امتحانی نظم کو سراجعام دیں گے، ناظمین اس کی گزاری کریں گے۔ مسول امتحان گران عملہ، معتمدین و متحمین حفظ کا تقرر، ان کی تربیت، مرکز امتحان کا تیکن اور دوران امتحان مرکز کا معاہدہ اور گران عملہ کو، ”وفاق“، کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کریں گے۔ قواعد و ضوابط درج ذیل ہیں۔

امتحانی مرکز کا قیام

(1) امتحانی مرکز کے قیام یا تبدیلی کے بارے میں درخواست 30 محرم الحرام تک دفتر و فاق کو موصول ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ملنے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔

(2) امتحانی ہال کشادہ، روشن اور صاف ہونا چاہیے۔ اس میں اتنی گنجائش ہو کہ ہر دو طلبہ کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا جائے کہ ایک دوسرے کو کاپی دیکھنے، دکھانے، دریافت کرنے اور بتانے کا امکان نہ رہے۔

(3) شہر میں بین کے مرکز کے لئے کم سے کم تعداد 150، بنات کے مرکز کے لئے 100 اور دیہات میں کم سے کم 50 تعداد لازمی ہے۔ شہر سے تیس کلو میٹر کی مسافت پر دیہات قصور کیا جائے گا۔ امتحانی مرکز اس ادارے کو بنایا جائے جس کے پاس کشادہ ہال ہو یا اس کا انتظام کر سکے۔

(4) جس ادارے کی تعداد زیادہ ہو اپنے طلبہ کی تعداد کے مطابق ہال مہیا کرنا اس کے ذمہ ہو گا۔ اور اگر کئی مدارس کے طلبہ اطالبہ ہوں تو وفاق امتحانی ہال کا انتظام کرے گا اور اس کا خرچ بذمہ شریک مدارس ہو گا۔ سنتر میں جزیز اور انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے۔ نیز مسؤول وفاق امتحانی مرکز کی فہرست میں ہر مرکز کا ای میل ایڈریس تحریر کریں۔

(5) وفاق کی طے شدہ تعداد کے مطابق یا وفاق کی ضرورت مصلحت کے پیش نظر مقررہ تعداد سے کم پر بھی جو مرکز امتحان بنایا جائے گا حسب معمول اس کے اخراجات وفاق ادا کرے گا۔ البتہ اگر مقررہ تعداد سے کم پر اہل مدارس کی درخواست اور اصرار پر کوئی مرکز بنایا گیا، تو وفاق اس مرکز امتحان کے 50 فیصد اخراجات (نگران عملہ کے حق الخدمت کی مدد میں) ادا کرے گا۔ باقی 50 فیصد خرچ بذمہ شریک مدارس ہو گا۔

(6) دور روز مرکز پر نگران عملے کا ”وقاق“ کی مقررہ حد سے زائد سفر خرچ بذمہ مرکز ہو گا، البتہ جہاں وفاق ضرورت سمجھے تو کامل خرچ وفاق ادا کرے گا۔

(7) نگران عملے کا قیام و طعام اور سینیٹری اور ایک خرچ بذمہ مرکز ہو گا۔

نگران عملہ کا تقریر

(1) نگران عملہ کے تقریر میں وفاق کے ضابطہ اور معیار کو ترجیح دی جائے۔ جس مدرسہ کے طلبہ جس سنتر میں ہوں وہاں اس مدرسہ کے اساتذہ کو نگران مقرر نہیں کیا جائے گا۔ غیر ملحق مدرسہ کے مدرس اور غیر مدرس کو نگران ہرگز مقرر نہیں کیا جائے گا۔ نگران عملہ کے ساتھ مدرسہ کا الماق نمبر اور موبائل نمبر درج کرنا ضروری ہے۔ نگران اعلیٰ کا موبائل نمبر، واش ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس بھی تحریر کریں۔

(2) حسب ضرورت بین کے نگران عملہ کا بین الاضلاعی تبادلہ (نگران اعلیٰ اور دو معاونین) مستولین با ہمی مشاورت سے کریں گے۔ جبکہ بڑے جامعات کے نگران عملہ کا بین الصوابی تبادلہ نظمیں کی مشاورت سے ہو گا۔

(3) ایسے مرکز جہاں عالمیہ کے طلبہ ہوں، ان میں عالمیہ تک پڑھانے والے اساتذہ کو نگران اعلیٰ مقرر کیا جائے۔ مسلسل تین سال سے زائد کسی امتحانی مرکز میں ایک نگران عملہ کو مقرر نہ کیا جائے۔ اگر کوئی نگران خدمت سے

- معذرت کرے تو اس کے مقابل کا تقریر کر کے دفتر وفاق کو اطلاع دی جائے۔
- (4) گران عملہ کی حاضری شیٹ میں آمدورفت کے وقت کا خانہ ہوگا، جس میں آمدورفت کا وقت درج کرنا ضروری ہے۔
- (5) گران عملہ، امتحانی مرکز والوں سے امتحانی ضروریات کے علاوہ کسی بھی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ نیز دوران امتحان، امتحانی ہال میں گران عملہ کے خورد و نوش کی صورت میں گرانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لئے اس سے بھی مکمل اجتناب کیا جائے۔ شکایت موصول ہونے پر ایسے گران عملہ سے آئندہ سال معذرت کی جائے گی۔
- (6) دوران امتحان گران عملہ (اسوائے گران اعلیٰ بصورت ضرورت شدیدہ) کے لئے موبائل فون کا استعمال منوع ہے۔ جو معاون گران موبائل فون استعمال کرتا ہوا پایا گیا اس دن کا حق الخدمت وضع کیا جائے گا۔

ضابطہ برائے تقریر گران امتحان درجہ کتب:

- درج ذیل اوصاف کے حامل معلمین و معلمات کو گران مقرر کیا جائے گا۔
- (7) متحق مدرسہ کے سامنے اعلیٰ کو گران لیا جائے گا۔ (8) استاد امتحانی با اعتماد، دیانتدار اور سنجیدہ ہو۔
- (9) درج کتب کا استاد امتحانی ہو۔ (10) امتحانی امور سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتا رکھتی ہو۔
- (11) گران کے تقریر کے لئے تعداد کے لحاظ سے درج ذیل اصول ہوں گے۔
- (الف) 25 شریک امتحان طلبہ درجہ کتب پر مدرسہ کا ایک گران کا استحقاق ہوگا، البتہ جن مدارس کے شریک امتحان طلبہ درجہ کتب 20 ہوں تو ان کے ہال سے بھی حسب درخواست ضرورت ایک گران لیا جا سکے گا۔ مدارس اپنے وفاقی طلبہ کی تعداد کے نتائج کے نام بھجوائیں گے۔
- (ب) اصولی طور پر بینن کے مدارس سے بینن کے گران اور بہات کے مدارس سے بہات کے گران لیے جائیں گے لیکن اگر بینن کے مدارس کا گران عملہ ضرورت پوری نہ کرتا ہو تو بوقت ضرورت مسئول 20 سے کم تعداد والے مدارس سے اور مدارس البہات کے معلمین کو گران مقرر کر سکتا ہے۔

گران اعلیٰ بینن کا تقریر:

- (12) گران اعلیٰ کے تقریر کی شرائط تو ہی رہیں گی جو گران کے لئے طے شدہ ہیں البتہ مزید شرط یہ ہے کہ کسی امتحانی مرکز میں کم از کم تین سال گرانی کا تجربہ ہو۔ جس مدرسہ کے درجہ کتب کے 150 طلبہ شریک امتحان ہوں، اس مدرسہ کو ایک گران اعلیٰ کا استحقاق حاصل ہوگا۔ گران اعلیٰ مقرر کرنے کے لئے جو زیادہ موزوں ہو، مدرسہ اجماع اس کی تصریح کرے۔ وفاق کی امتحانی کمیٹی کو مکمل اختیار ہوگا کہ وہ ان کی تقریر کی بھی امتحانی مرکز میں کرے۔

نگران بنات کا تقرر:

(13) بنات کے لئے بھی نگران کے تقرر کا وہی ضابطہ ہے جو بنیں کے لئے ہے۔

مرکز امتحان میں معاون خصوصی کا تقرر:

(14) جس امتحانی مرکز میں شرکاء امتحان کی تعداد 500 سے زیادہ ہو تو مسئول وہاں 600 پر ایک خصوصی معاون نگران اعلیٰ کا اضافہ کر سکتا ہے، جو کہ 1000 تک کی تعداد کے لئے کافی ہو گا، جب تعداد طلبہ 1100 ہو جائے گی تو مزید ایک معاون خصوصی بڑھایا جائے گا، اسی ترتیب سے ہر 500 پر اضافہ ہوتا جائے گا۔ معاون خصوصی جوابی کا پیوں پر مستخط کرنے کا مجاز بھی ہو گا اور انہی اوصاف کا حامل ہو گا جو نگران اعلیٰ کے لئے ملحوظ رکھی گئی ہیں۔

(15) وفاق کے ضابطے کے مطابق نگران و متحن کے نام مدارس دفتر وفاق کو بھیجیں گے، اگر کوئی مدرسہ وفاق کے ساتھ تعاون نہ کرتا ہو، یا ضابطے کی خلاف ورزی کرے، تو وفاق ایسے ادارے کے امتحان کا نظم قائم کرنے سے معدود ت خواہ ہو گا۔

امتحان حفظ کے اصول و ضوابط

(1) حفظ کے متحن اور متحن اعلیٰ کا تقرر نیز مرکز امتحان کا تعین مسئول، صوبائی ناظم کی راہنمائی اور مشاورت سے کرے گا۔

(2) اگر کوئی ادارہ/جامعہ کسی غیر حافظ، نامکمل حافظ، پرائیویٹ حافظ کا امتحان دلوائے گا تو اس کے خلاف سخت تدبی کارروائی کی جائے گی۔ اگر اس بعد عنوانی میں مدرسہ ملوث پایا گیا تو اس کا الحال بھی ختم کیا جاسکتا ہے۔

(3) حفظ کے امتحانی مرکز کے معائنہ کے لئے معائنہ ٹیم مقرر ہو گی، جو درجہ کتب کے مرکزی طرح معائنہ کرے گی۔

(4) حفظ کے امتحان کا یومیہ وقت صحیح آٹھ تا ایک بجے دو پہر ہو گا۔ یومیہ تعداد طلبہ نیز متحن 25 تا 30 ہو گی۔

(5) مسئول نظم امتحان کی نگرانی کرے گا خود امتحان لینے کا مجاز نہ ہو گا۔

(6) حفظ کے طلبہ و طالبات کا امتحانی مرکز شدید ضرورت پیش آنے پر تبدیل کیا جاسکے گا، جبکہ مرکز تبدیلی کی اطلاع امتحان سے دس دن قبل دفتر کو کرنی ضروری ہو گی۔

(7) امتحان کے ذوق میں عذر شرعی کی وجہ سے معدود طالبات کا امتحان ایام مخصوصہ کے بعد دوبارہ لیا جائے گا۔

- (8) ممتحین حفظ تمام و ایسٹگیوں سے بالاتر ہو کر، کسی دباؤ میں آئے بغیر ضوابط کے مطابق امتحان لیں۔
- (9) تحفیظ کے مراکز بناتے وقت مدارس کی ہولت کو مد نظر رکھا جائے، تاہم 100 سے کم تعداد پر مرکز نہ بنا�ا جائے۔
- (10) حفظ کے داخلہ فارم پر دی گئی ہدایات کے مطابق امتحان لیا جائے اور انہیں ضوابط کے مطابق نمبر دیے جائیں۔
- (11) ہر مرکز میں ایک ممتحن اعلیٰ مقرر کیا جائے گا۔ ممتحن اعلیٰ حفظ، امتحان کے طریقہ کار کا جائزہ لے گا کہ ممتحن نے امتحان کس طرح امتحان لے رہا ہے۔ دوران امتحان طلبہ کا شناخت نامہ چیک کر کے تسلی کرے کہ کوئی پرائیوریت یا تبادل یا دوبارہ امتحان تو نہیں دے رہا۔ واضح رہے کہ حفظ کے دوبارہ امتحان کے داخلہ کے وقت تحریری درخواست اور سابقہ اصل سند داخلہ فارم کے ساتھ اضافہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بے ضابطگی کی شکایت ہو تو ممتحن اعلیٰ حسب ضابطہ مکمل تحقیق کے بعد رپورٹ تحریر کریں۔

حفظ القرآن الکریم کے ممتحن کے تقریب کا ضابط

- (1) حفظ القرآن الکریم کے لئے ممتحن مدارس سے ممتحن کا تقرر کیا جائے گا۔ (2) ممتحن کے لئے تحفیظ و تجوید کا مدرس، تجربہ کار اور دیانتدار ہونا ضروری ہے۔
- (3) پانی پتی طرز کے مدارس کے لئے پانی پتی ممتحن اور مصری طرز کے مدارس کے لئے مصری طرز کا ممتحن مقرر کیا جائے گا۔
- (4) حافظات کے امتحان کیلئے قاریہ معلمہ کا تقرر کیا جائے گا۔ اگر قاریہ میسر نہ ہو تو عمر سیدہ مرد ممتحن اس طرح امتحان لے کہ بچیوں کے ساتھ پرده میں ایک خاتون موجود ہے، تاکہ کوئی پچی قرآن کریم دیکھ کر یا کسی دوسری کی جگہ نہ شناسے۔

متانج حفظ و امتحانی فائل کی ترسیل

امتحان کے بعد ممتحن اعلیٰ متانج حفظ پر مستخط کر کے مسئول کے حوالے کرے۔ جس پر مسئول تصدیقی دستخط کر کے ایک کاپی اپنے پاس محفوظ رکھے اور اصل متانج دفتر و فاقہ کو ارسال کرے۔

معتمد کا تقرر

- (1) مراکز تک سوالیہ پر چھپنے کے لئے مسئول اپنی صوابیدہ پر معتمد کا تقرر کرے گا۔
- (2) مگر ان اعلیٰ کو اصولی طور پر معتمد نہیں بنایا جائے گا۔ البتہ مگر ان اعلیٰ اپنے مشترکا پر چھپ مسئول سے روزانہ

وصول کر سکتا ہے، لیکن اضافی حق الخدمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ معادن نگران کو بھی صرف ناگزیر صورت میں اپنے ستر کے علاوہ معتمد بنایا جاسکتا ہے اور اس صورت میں وہ اضافی حق الخدمت کا مستحق ہوگا۔

(3) نہیں کی حل شدہ جوابی کا پیاس دفتر و فاق کو ارسال کرنے کا ذمہ دار نگران اعلیٰ ہے جبکہ بنات کی حل شدہ جوابی کا پیوس کی ترسیل اس مرکز کے معتمد کے ذریعے کی جائے گی۔

سوالیہ پر جہات کی تقسیم

سوالیہ پر چوں کی حفاظت اور انہیں محفوظ ہاتھوں تک پہنچانے میں، اکابرین وفاق، کی شبائر روز کا وشوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جس سے مقصود یہ ہے کہ قبل از وقت کسی سوال کا افشاء نہ ہو۔ مسئول وفاق ان پر چوں کی حفاظت قیمتی سے قیمتی متاع سے بھی بڑھ کر کریں اور ان کی حفاظت کے لئے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھے۔

(1) سوالیہ پر جہات اصلاح مسئولین کو پرد کیجے جائیں گے۔ (2) مسئول اپنے ہاں سوالیہ پر جہات کو خفیہ مقام پر محفوظ رکھے۔

(3) تمام پرچے ایک ہی وقت میں معتمد کے حوالے ہرگز نہ کیجے جائیں۔ (4) معتمدین کے ذریعے سوالیہ پرچے مراکز تک یومیہ بیانار پر پہنچانا لازم ہے۔

(5) پرچے کا وقت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پرچہ پہنچایا جائے۔ نیز آدھا گھنٹہ سے قبل یا مقررہ وقت سے تاخیر نہ ہو۔ ضابطہ کی خلاف درزی پرخت تادبی کارروائی ہوگی۔

معاہنہ کار کے تقریر کا ضابطہ

(1) میں الاضلاع یا صوبائی سطح پر مراکز کا معاہنہ کرنے والے مستقل معاہنہ کار مردو خواتین کا تقریر ناظم اعلیٰ یا صوبائی ناظم کرے گا، جہاں رکن عالمہ اور کن امتحانی کمیٹی موجود ہو تو انہیں معاہنہ کار بنایا جائے گا۔ جہاں یہ حضرات موجود نہ ہوں، یا ان تمام یا بعض مراکز میں وہ نہ پہنچ سکیں، تو کسی اور معتبر اور با اثر شخصیت کو معاہنہ کار مقرر کیا جاسکتا ہے۔ جن کا معاہنہ کرنا موثر ثابت ہو۔

(2) معاہنہ کرنے کا شیڈول صوبائی ناظم یا مسئول طے کرے گا، جس کی پابندی لازمی ہوگی۔

(3) مسئول نہیں کے مراکز کا معاہنہ خود کرے گا اور بنات کے مراکز کا معاہنہ کرنے کے لئے کسی معتمد خاتون کو مقرر کرے گا۔ اگر مسئول اپنے دائرة مسئولیت کے تمام مراکز میں خود نہ پہنچ سکے تو ایسے مراکز کے لئے کسی معتبر

و موثر شخصیت کو بہ شورہ صوبائی ناظم معاہدہ کا مقرر کرے گا اور معاہدہ کا نظم بھی طے کرے گا۔

امتحانی فائل درجہ کتب

(1) درجہ کتب کے امتحان کے اختتام پر گران اعلیٰ ستر کی فائل مسٹول کے حوالے کرے اور مسٹول "دفتر وفاق" کو ارسال کرے۔

(2) فائل میں موجود متوسط، تجوید اور دراسات کے ناظرہ، حدرا اور ترتیل کے نمبروں کی فہرست کی ایک لفڑ مسٹول اپنے پاس محفوظ رکھے گا اور اصل نتائج دفتر وفاق کو بھجوائے گا۔

محضن و متحن اعلیٰ برائے مارکنگ پر جو جات کے تقریر کے لئے ضوابط

(1) مارکنگ کے لئے صرف ایسے مدارس سے متحن لئے جائیں گے، جن کی درجہ کتب میں وفاقی طلبہ کی تعداد کم از کم ہیں ہو اور متحن کا بافعال مدرس ہونا اور عرصہ تدریس کم از کم تین سال ہونا ضروری ہے۔

(2) متحن اور متحن اعلیٰ کے پر دوہی کتب کی جائیں گی جو ان کے زیر درس رہ چکی ہوں۔

(3) حتیٰ تقریر کے لئے تعداد داخلہ، عرصہ تدریس اور مارکنگ کے تجربہ کو معیار بنا�ا جائے۔ جن کے کل نمبر 100 (100) ہوں۔

(4) تعداد داخلہ (کل نمبر چالیس): 20 سے 50 تعداد تک دس نمبر، 51 سے 100 تک بیس نمبر، 100 سے 200 تک تیس نمبر اور 200 سے زائد پر چالیس نمبر ہوں گے۔

(5) عرصہ تدریس (کل نمبر پیسیس): 3 سے 4 سال تک پانچ نمبر، 5 سے 6 تک دس نمبر، 7 سے 8 تک پندرہ نمبر، 9 سے 10 تک بیس نمبر اور 11 سال یا اس سے زائد پر پورے پیس نمبر دیے جائیں گے۔

مارکنگ کا تجربہ (کل نمبر پنیسیس): (6) ہر سال پر پانچ نمبر دیے جائیں اور سات سال پر پورے پنیس نمبر دیے جائیں گے۔

(7) متحن اعلیٰ کے تقریر کے لئے بافعال مدرس ہونا اور سات سالہ مارکنگ کا تجربہ لازم ہے۔

(8) جس مدرسہ کے طلبہ و طالبات کی تعداد مقررہ ضابطہ کے مطابق نہ ہو اگر اس مدرسہ سے پہلے کوئی متحن اعلیٰ لیا جا چکا ہو تو ان سے مhydrat کر لی جائے گی۔

(9) مقرر شدہ معیار پر اگر متحنین کی مطلوب تعداد مستیاب نہ ہو تو صرف تعداد طلبہ کی شرط میں رعایت دے دی جائے گی۔ اگر متحنین ضرورت سے زائد ہوں تو متعین ضابطہ انتخاب بردا کا رالایا جائے گا۔ بوقت ضرورت مزید

استثنائی صورتوں کے بارے میں امتحانی کمیٹی فیصلے کرے گی۔

(10) مارکنگ کے لیے متحن کا نام (ہمراہ نقشہ تقسیم اسماق) وفاق کے مروجہ قارم پر بھجوایا جائے گا جو کہ مختتم درس سے تصدیق شدہ ہو۔ اتحاقاً سے زیادہ حضرات کو پرچے جانچنے کی دعوت نہیں دی جائے گی۔

(11) مختین اور نگران عملہ سے متعلق کوائف طلبی کے لئے دفتر وفاق، حرم الحرام میں مدارس کو خط ارسال کرے گا، جو کہ کم صفر المظفر تک دفتر وفاق کو موصول ہونا ضروری ہو گے، دفتر اس کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر غور کرنے کا پابند نہ ہو گا۔ دفتر یہ کوائف 16 صفر المظفر تک متعلقة مسئولین اور ناظمین کو بھجوادے گا اور ناظمین کی طرف سے 30 ربیع الاول تک دوبارہ دفتر وفاق کو واپس موصول ہونے چاہئیں۔

حفظ القرآن الکریم کے مختین کا حق الخدمت

☆ حفظ القرآن الکریم کے مختین کا حق الخدمت 650 روپے اور متحن اعلیٰ کا حق الخدمت 780 روپے یومیہ ہو گا۔

نگران عملہ کا حق الخدمت

(1) درجہ کتب کے نگران اعلیٰ کا حق الخدمت مبلغ 3600 روپے اور زیادہ سے زیادہ سفر خرچ 1300 روپے ہے، جبکہ معاون نگران کا حق الخدمت 2700 روپے اور زیادہ سے زیادہ سفر خرچ 1200 روپے ہے۔ واضح رہے کہ یہ سفر خرچ کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے۔ کم خرچ ہونے کی صورت میں نگران عملہ حقیقی سفر خرچ دصول کرے، نیز مقررہ مقدار سے زیادہ کرایہ خرچ ہونے کی صورت میں مسئول کی سفارش پر ادا کیا جائے گا۔ نگران خواتین کے ساتھ آنے والے حرم مرد کو صرف دو مرتبہ آمد و رفت کا کرایہ ادا کیا جائے گا۔

(2) معاون خصوصی کا حق الخدمت نگران اعلیٰ کے حق الخدمت سے تین سوروپے کم ہو گا، چنانچہ موجودہ شرح کے لحاظ سے اس معاون خصوصی کا حق الخدمت 3300 روپے ہو گا۔

معاشرہ کار کا حق الخدمت

☆ مرکز کے معاشرہ کرنے والوں کا حق الخدمت 800 روپے یومیہ ہو گا۔ ”وفاق“ کے عہدیداران، اراکین مجلس عاملہ و امتحانی کمیٹی کے اراکین اگر مرکز کا معاشرہ کریں گے تو ان کا یومیہ حق الخدمت 1000 روپے ہو گا۔

معتمد کا حق الخدمت

(1) ایک یادو مرکز تک پرچے پہنچانے والے معتمد کو 1800 روپے ادا کئے جائیں گے اور اگر جوابی کا پیار

بھی وصول کرے تو معاون گران کے مساوی یعنی 2700 روپے کا مستحق ہو گا۔ ایسا معتمد جو صرف بھین کے مرکز کو جوابی کا پیاس پہنچائے، اسے حل شدہ جوابی کا پیوس کی وصولی کا حق الخدمت ادا کیا جائے۔

(2) 3 سے 5 مرکز تک پرچہ پہنچانے والے معتمد کو معاون گران کے مساوی حق الخدمت (2700 روپے) دیا جائے گا۔ جبکہ 5 سے زائد مرکز کی صورت میں فی مرکز 300 روپے اضافی حق الخدمت کا حق دار ہو گا۔ 3 سے 5 مرکز تک سوالیہ پرچہ پہنچانے اور جوابی کا پیاس بھی وصول کرنے کی صورت میں 3600 روپے حق الخدمت ادا کیا جائے۔ جبکہ 5 سے زائد مرکز کی صورت میں فی مرکز 400 روپے اضافی حق الخدمت کا حقدار ہو گا۔

(3) دیہی علاقوں میں تیس کلو میٹر سے کم فاصلے پر صرف سوالیہ پرچہ پہنچانے والے معتمد کو 1800 روپے حق الخدمت دیا جائے گا اور اگر جوابی کا پیاس بھی واپس لائے تو دونوں کاموں پر 2700 روپے حق الخدمت ادا کیا جائے گا۔ دیہی علاقوں میں تیس کلو میٹر سے زائد فاصلے پر جو معتمد سوالیہ پرچہ پہنچاتا ہے اور سوالیہ پرچہ وصول بھی کرتا ہے تو اس کا حق الخدمت گران اعلیٰ کے مساوی (3600 روپے) ہو گا۔ شہری علاقوں میں قربی مرکز کیلئے الگ الگ معتمد مقرر رہے کیا جائے۔

مرکز کے معاہنہ کا حق الخدمت

* مرکز کا معاہنہ کرنے والے مردوخاتین کا حق الخدمت 800 روپے یومیہ ہو گا۔ ”وفاق“ کے عہدیداران، اراکین مجلس عالیہ و امتحانی کمیٹی کے اراکین اگر مرکز کا معاہنہ کریں گے تو ان کا یومیہ حق الخدمت 1000 روپے ہو گا۔

مسئولین کا حق الخدمت

(1) درجہ کتب کے مسئولین کا حق الخدمت ایک تادس مرکز 16800 روپے اور بیس مرکز تک 24000 روپے ہے۔ مزید اضافی مرکز پر 500 روپے فی مرکز ہے۔ جبکہ مسئولین حفظ کا حق الخدمت 16800 روپے ہے۔

(2) جو مسئولین دونوں شعبہ جات (حفظ و کتب) کے امتحانات کے ذمہ دار ہیں ان کو درجہ کتب کا مکمل حق الخدمت اور درجہ حفظ کا نصف حق الخدمت ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح ضمی امتحان میں مسئولین میں ایک تادو مرکز پر 4200 روپے جبکہ 3 یا اس سے زائد مرکز پر 8400 روپے ادا کئے جائیں گے۔

امتحانی اخراجات کی ادائیگی

- (1) مسئول کو درج ذیل اخراجات کی اجازت ہو گی۔ ٹیلی فون، ٹرانسپورٹ، معاشرہ، ڈاک خرچ اور فرائض منسی کے دوران حسب ضرورت طعام۔ مسئول ان مدت کے اخراجات میں ضرورت اور دیانت کو محفوظ رکھے گا۔ ان مدت کے واقعی اور حقیقی اخراجات جن کے ثبوت نسلک کئے گئے ہوں گے، وہ قبل ادائیگی ہوں گے۔
- (2) نگران عملہ، معتمدین اور مختصین حفظ کے اخراجات کی مکمل پڑنم کے بعد ادائیگی ہو گی، ان کی رسیدات بھی نسلک کرنا ضروری ہے۔ مقررہ ضوابط سے زائد اخراجات کے لئے صوبائی ناظم کی سفارش ضروری ہو گی، اس کے بغیر ادائیگی نہ ہو گی۔
- (3) ادائیگی کے ملے اور دیگر حسابات کی تفصیل بذریعہ T.C.S یا رجسٹری بنام محاسبہ دفتر و فاقہ ارسال کیا جائے۔ جملہ اخراجات کے بلوں کی کاپی مسئول اپنے پاس محفوظ رکھے۔
مزید کسی قسم کی وضاحت کیلئے ناظم اعلیٰ، ناظم مرکزی دفتر و فاقہ سے مراجعت کی جائے۔

جزاكم اللہا حسن الجراء

والسلام

(مولانا) محمد حنفی جalandhri

ناظم اعلیٰ و فاقہ المدارس العربیہ پاکستان

۸ جادوی الآخری 1439ھ بہ طابق 25 فروری 2018ء